

اپنی عمارت کو آگ سے محفوظ رکھنے کے پانچ طریقے

چاہے آپ پراپرٹی کے مالک ہوں یا کرایہ دار، یقینی بنائیں کہ آپ ان حفاظتی اصولوں سے واقف ہیں:


4. صاف اور رکاوٹ سے پاک باہر نکلنے کے راستے

ہال میں اور عمارت کے تمام داخلی دروازوں پر بشمول چھت کے دروازوں کے باہر نکلنے کے راستوں میں آگ سے بچاؤ میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف منظور شدہ حفاظتی دروازے جو چابی کے بغیر کھلتے ہوں، فائر اسکیپ ونڈوز یا ثانوی درجے کے باہر نکلنے کے راستے پر نصب کیے جا سکتے ہیں۔



5. اسٹوو نوب کے کورز

پراپرٹی کے مالکان کو گیس سے چلنے والے چولہے کے لیے اسٹوو نوب کے کورز فراہم کرنے ہوں گے جہاں وہ جانتے ہوں یا معقول طور پر اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہاں چھ سال سے کم عمر کا بچہ رہتا ہے۔ انہیں کسی ایسے گھرانے کو اسٹوو نوب کے کورز بھی فراہم کرنے ہوں گے جو ان سے درخواست کرتے ہیں۔



کرایہ دار کیلئے مزید تجاویز:

اگر آپ کا سامنے کا دروازہ از خود بند نہیں ہوتا ہے، آپ کی عمارت میں فعال اسموک الارم نہیں لگا ہے، کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جن کے آپ مالک نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کے باہر نکلنے کے راستے مسدود ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس آپ کو درکار اسٹوو نوب کورز نہیں ہیں تو، **اپنی عمارت کے مالک سے رابطہ کریں۔**

اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو آپ 311 پر شکایت درج کر سکتے ہیں۔

اور یاد رکھیں: فائر اسکیپس اور ڈبل سنڈر لاکس پر چابی سے بند کی جانے والی کھڑکی والے دروازے لگانا غیر قانونی ہے۔


1. از خود بند ہونے والے دروازے

3 یا اس سے زیادہ اپارٹمنٹس والی تمام رہائشی عمارتوں میں از خود بند ہونے والے دروازے لگے ہونے چاہئیں۔ یقینی بنائیں کہ اپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے چابی کے بغیر کھلتا ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔



2. اسموک الارمز

پراپرٹی کے مالکان کیلئے اسموک ڈیٹیکٹرز فراہم کرنا اور انسٹال کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹیکٹرز کی دیکھ بھال کرایہ دار کو کرنی ہے، بشمول بیٹریوں کی جانچ پڑتال اور تبدیلی۔



3. آگ سے بچاؤ کا منصوبہ

پراپرٹی کے مالکان پر لازم ہے کہ وہ اپارٹمنٹ کے ہر دروازے کے اندرونی حصے پر، مشترکہ علاقے میں وہ منصوبے شائع کریں، اور ہر یونٹ میں، نئے کرایہ داروں کو اور سالانہ آگ سے بچاؤ کے ہفتے کے دوران وہ تقسیم کریں۔

